



SIDDIQUA SARFARAZ SIPRA

PLOT # 4-12 1ST FLOOR BLOCK-5 GULSHAN-E-IQBAL
CNIC No. Not Available .FED: NURSERY
Consumer No.: LB190901 | Contract No. 30480564
Dispatch ID: 201371541




Commercial
A2-C

Current Month موجودہ مہینہ 31°C avg temp
673 Units

Last Month 29°C avg temp
چھٹلا مہینہ 713 Units ↓ 5%*
Last Year 30°C avg temp
چھٹلا سال 459 Units ↑ 47%**

% Change in consumption from *last month / **last year same month
% کے لحاظ سے بجلی کے استعمال میں *چھٹلا مہینے / **چھٹلا سال ای مہینے میں تبدیلی

13-Month Usage History تفصیل 13 مہینے کے استعمال کی تفصیل
2020 2021



Billing & Payment History بلنگ اور ادائیگی کی تفصیل

MM / YY	Billed Amount	Pay-Date	Payment
09/21	22,650.92	05-Oct-21	22,651.00
08/21	14,907.44	13-Sep-21	14,908.00
07/21	19,913.07	11-Aug-21	19,913.00
06/21	2,507.23	13-Jul-21	2,507.00
05/21	4,256.40	14-Jun-21	4,256.00
04/21	6,421.36	07-May-21	6,422.00

Payment Channels ادائیگی بزرگیہ



This is an electricity bill. Consumer name and address mentioned therein does not constitute proof of title/ownership of property.



Customer's Name
Account Number
Contract Number

SIDDIQUA SARFARAZ SIPRA
0400005273550
30480564



Please do not stamp on the bar code.

Reach K-Electric Limited

E-Bill

Customer Care Centre Gulshan-e-Iqbal

Chic center, KESC wing, Block- 14 , Gulshan-e-Iqbal.

Scan Me



www.ke.com.pk

customer.care@ke.com.pk

KElectricPK

@KElectricPK

KE GST No. 12-00-2716-007-28

KE NTN No. 1543137-1

Please be informed that KE's responsibility is restricted to supply to the meter. Any internal wiring of the premises as well as the installation of appliances is at the customer's risk and responsibility alone.
کے ای کی ذمہ داری میٹر تک محدود ہے۔ اپنے گھر کے برقی آلات کی تنصیب اور تحفظ کی ذمہ داری صارف کے اوپر عائد ہے۔

Account Number
0400005273550



Invoice Number
460011720795

Issue Date
29-Oct-2021

Bill Month
Oct-2021

Amount Payable واجب الادا رقم
Rs. 20,973

For details, please see back of the bill. بل کی مزید تفصیلات پشت پر ملاحظہ فرمائیں.

Please pay within due date
and save

Rs. 1,471.18

برائے رقم مقررہ تاریخ تک بل ادا کر کے بچت کریں

Due Date
**12th
November
2021**
مقررہ تاریخ

Amount Payable after Due Date مقررہ تاریخ کے بعد واجب الادا رقم
Rs. 22,444

Per Government of Pakistan's Finance Act 2021 applicable across the country, residential customers who are non-tax filers will be charged 7.5% Advanced Income Tax on electricity bills of Rs. 25,000 and above from 1st July 2021.

If you are a tax-filer and your name is present on the FBR's Active Taxpayer List, please immediately update your CNIC in our records to be eligible for exemption.

Scan QR code for details



یہ ایک بجلی کا بل ہے۔ اس میں درج کردہ صارف کا نام اور پتہ ٹیکس کے ثبوت پر اپنی ملکیت کا قانونی جواز فراہم نہیں کرتا ہے۔

Invoice Number
460011720795

Due Date
12-Nov-21

Within Due Date
Rs. 20,973

After Due Date
Rs. 22,444

Bank Clearance / Signature

Your Current Bill Calculation آپ کے موجودہ بل کا حساب

Bill Charge Mode. NORM
Meter No. TU12900
Reading Date 28-Oct-21

The electricity you have used

	Previous Reading	Current Reading	MMF	Units (KWh)	MDI (KW)
Energy	853	1526	1.000	673	

Your electricity charges for the period

No. of Month(s): 1

	Units	Rate / Unit	Amount
Variable Charges			13,426.36
Above 100	673.00	19.95	13,426.35
Quarterly Adjustment			733.57
Above 100	673	1.09	733.57
Fuel Charges Adjustment			551.86
Mar-21	360	1.9419	699.08
May-21	155	-0.9498	-147.22
KE Charges			14,711.79
Electricity Duty			294.24
General Sales Tax			2,551.03
Further GST			450.18
Extra GST			1,050.42
Income Tax U/S 235			1,855.77
TVL Fee			60.00
Government Charges			6,261.64
Your Electricity Charges for the Period			21,973.43

Consumers are requested to provide their NTN/CNIC numbers to KE as required by Government of Pakistan. Please call 118 or update your information on

Number and SMS to 8119 e.g. CNIC 4230168985910-75141-0400001865423

Customer Information صارف کی معلومات

Consumer No LB190901 | Sanc. Load 3
Account No 0400005273550 | Conn. Load 3
Security Deposit 3100.00 | Tariff A2-C



In case of any complaint, the consumers are advised to approach K-Electric in the first instance. If the complaint is not resolved, the consumers may file complaint with NEPRA at the following address:

NEPRA Regional Office, Karachi:
Office No. 101, 1st Floor, Balad Trade Center, Block No. 3, Bahar Muslim Housing Society, Bahadarabad, Karachi.

OR

Consumer Affairs Department National Electric Power Regulatory Authority (NEPRA), Attaturk Avenue (East), Sector G-5/1, Islamabad.


EIK/POI Region-1
Mechanical & Soil Laboratory, Irrigation Building, Adjacent to City School PAF Chapter, Shaheed-e-Millat Road, Baloch Colony, Karachi.

EIK/POI Region-2
Plot No. ST-02, Block-N, Main Sakhi Hasan Chowrangi, North Nazimabad, Karachi

EI/POI Hub, Balochistan
Electric Inspectorate, Irrigation Building, Sakran Road, Hub, District Lasbela, Balochistan. Tel: 0853-310172

Billing Statement بل کی تفصیل

Carry Forward Balance	22,650.22
Payments/Adjustment	-22,651.00
Your Electricity Charges for the Period	20,973.43
Outstanding Balance	20,972.64
Amount Payable within Due Date	20,973
Late Payment Surcharge	1,471.18
Amount Payable after Due Date	22,444



صارفین کے لیے ضروری ہدایات

- 1 صارف اپنے بجلی کے بل کی کل رقم مقررہ تاریخ کے اندر جمع کروانے کا پابند ہے۔ مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد بل کی ادائیگی اگلے ماہ کے بل کے اجراء سے قبل تاخیر کرنا نہ کیا جائے۔
- 2 اگر بجلی کے بل پر Disconnection لکھا ہے تو اسے موصول ہوتے ہی ادا کر دیا جائے ورنہ قانون کے مطابق بجلی منقطع کر دی جائے گی۔
- 3 صارفین کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ K-Electric (KE) کے مٹلے یا کسی دوسرے شخص کو صارفین سے رقم وصول کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ بلڈالوں کی ادائیگی صرف بل کے صفحے اول پر دیئے گئے ادا بجلی کے ذرائع / طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے کی جائے۔
- 4 بلوں کی ادائیگی کے لئے نقد رقم، بے آڈر، چیکس یا بینک ڈرافٹس کسٹمر سروس سینٹر کو بھیجے جائیں۔
- 5 مالکان مقررہ تاریخ تک بل میں ادا کرنے کے پابند ہیں۔ عدم ادائیگی کی صورت میں، KE اپنے واجبات کی وصولی کے لئے پراپرٹی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
- 6 بجلی چوری کرنا، کسی میٹر یا بجلی کوٹا سے والے آلات اور مقررہ ترتیب میں گزریا یا بد اخلاقت کرنا، میٹر روکنے، اس کی رفتار سے کرنے یا میٹر میں دخل اندازی کی کوشش کرنا، الیکٹریسیٹی انٹیل اور فوجداری قانون کے تحت قابل سزا عمل ہے۔ اس پر جرمانے یا سزایا دونوں کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ایسی کسی بھی صورت میں NEPRA کے قواعد و ضوابط کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔
- 7 صارفین شکایات درج کرنے کے لئے KE لائیو ایپ، 118 سروس سینٹر، کسٹمر سروس سینٹر یا customer.care@ke.com.pk پر ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔
- 8 صارفین بل موصول نہ ہونے کی صورت میں، بل کی نقل KE لائیو ایپ، 8119 SMS، KE کی ویب سائٹ www.ke.com.pk، کسٹمر سروس سینٹر آکر، customer.care@ke.com.pk سے ای میل کے ذریعے یا 118 پر کال کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔
- 9 میٹر ریڈنگ حاصل نہ ہونے کی صورت میں، بجلی کے سابقہ اوسط خرچ کی بنیاد پر بل تیار کیا جائے گا جسے آنے والے بل میں اصل خرچ کی بنیاد پر ایڈجسٹ کر لیا جائے گا۔
- 10 KE کے میٹر اور دیگر تنصیب کا بحفاظت تحفظ صارف کی ذمہ داری ہے۔

- 11 اگر آپ کے سیکورٹی ڈپازٹ کی تفصیلات درست نہیں ہیں تو برائے مہربانی کسٹمر سروس سینٹر سے پروف آف میٹنگ کے ساتھ رجوع کریں۔
- 12 بل چارج موڈ:

کود	وضاحت	تفصیل
NORM	Normal	عام حالات
AVG	Average	جب میٹر ریڈنگ نہیں لی جاسکے
DET	Theft / Detection	جب بجلی چوری کے آثار ملیں / میٹر کی خرابی کے دوران
ADJ	Adjustment	جب صارف کو کچھلے میٹروں سے اوسط بلنگ ہو رہی ہو

- 13 نو پارٹ میٹرف کی صورت میں، صارف کا اوسط پاور فیکٹر سپلائی کے مقام پر 90% سے کم نہیں ہونا چاہئے۔ نوکورہ پاور فیکٹر 90% سے کم ہونے کی صورت میں صارف پر NEPRA کے قواعد کے مطابق جرمانہ عائد کیا جائے گا۔
- 14 کچھ قبایع یا حالت کو متاثر نہ ہونے یا کسی اور انتظامی وجہ سے الگ دکھایا گیا ہے۔ تاہم KE ان واجبات کی وصولی کا قانونی حق محفوظ رکھتا ہے۔
- 15 TVL ٹیکس سے مستثنیٰ فارم KE کی ویب سائٹ کے علاوہ کسٹمر سروس سینٹر پر بھی دستیاب ہے۔ TVL ٹیکس چارج کرنے کے ضمن میں، صارفین یہ فارم خود بھی PTV سے تصدیق کر کے کسٹمر سروس سینٹر پر بھیج سکتے ہیں۔ بغیر تصدیق کی صورت میں KE فارم PTV بھیجے گا جہاں تصدیق کارآمد 45 دن ہیں۔
- 16 بل میں کسی غلطی ہونے کی صورت میں، صارف مناسب وقت کے اندر جو کہ بل کی تاریخ کے 14 دن سے زیادہ نہ ہو، اسے درست کرالیں۔
- 17 اپنی میٹرف کھنگری میں صارف کے لئے قابل اطلاق قواعد و ضوابط اور ان رجسٹراروں کے انگریزی ترسے کے لئے، صارف KE کی ویب سائٹ یا اپنے قریبی کسٹمر سروس سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
- 18 تمام صارفین کو بذریعہ منظر کیا جاتا ہے کہ جو بجلی KE کی جانب سے فراہم کی جاتی ہے عموماً کسی دوسرے شخص یا ادارے کو دوبارہ فروخت کے لئے دستیاب نہیں ہوگی۔
- 19 مستقبل میں NEPRA کی منظوری کے بعد بل ہونے والے زیر التواء FCA کے واجبات کی تفصیلات کے لئے، براہ کرم KE کی ویب سائٹ www.ke.com.pk پر وزٹ کریں۔



**KE LIVE APP
DOWNLOAD
KAREN AUR PAEN...**

AMAZING DISCOUNT*

87% OFF

Befiler
Your Digital Tax Advisor



Google Play App Store